

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 6th	Total Marks: 10
6th Month, 3rd Week, 1st Day		Syllabus: Unit # 12: The Sun to Mercury.

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×6=6)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. The mass of the sun is about: سورج کا ماس تقریباً..... ہے۔

(a) 2×10^{20} kg	(b) 2×10^{30} kg	(c) 2×10^{40} kg	(d) 2×10^{35} kg
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2. The temperature of outer surface of the sun is about:

سورج کی بیرونی تہ کا درجہ حرارت ہے:

(a) 4000 °C	(b) 6000 °C	(c) 8000 °C	(d) 10,000 °C
-------------	-------------	-------------	---------------

3. Which of the following is a smallest planet of the solar system?

ان میں سے کون سا نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے؟

(a) Mars	مرخ	(b) Mercury	مرکری
(c) Venus	ونیس	(d) Earth	زمین

4. The percentage of hydrogen in the sun is: سورج میں ہائیڈروجن..... فیصد ہے۔

(a) 25%	(b) 35%	(c) 65%	(d) 75%
---------	---------	---------	---------

5. The diameter of the sun to: سورج کا ڈایا میٹر ہے:

(a) 1392000 km	(b) 13920 km	(c) 139200 km	(d) 1492000 km
----------------	--------------	---------------	----------------

6. Most of the mercury planet comprises of:

مرکری سیارہ کا زیادہ تر حصہ..... پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a) Copper	کاپر	(b) Iron	آئرن
(c) Silver	سلور	(d) Carbon	کاربن

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is the composition of sun? سورج کی کمپوزیشن کیا ہے؟

(ii) What do you know about mercury planet? مرکری سیارے کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 6th	Total Marks: 10
6th Month, 3rd Week, 1st Day		Syllabus: Unit # 12: The Sun to Mercury.

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×6=6)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. The mass of the sun is about: سورج کا ماس تقریباً..... ہے۔

(a) 2×10^{20} kg	(b) 2×10^{30} kg	(c) 2×10^{40} kg	(d) 2×10^{35} kg
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2. The temperature of outer surface of the sun is about:

سورج کی بیرونی تہ کا درجہ حرارت ہے:

(a) 4000 °C	(b) 6000 °C	(c) 8000 °C	(d) 10,000 °C
-------------	-------------	-------------	---------------

3. Which of the following is a smallest planet of the solar system?

ان میں سے کون سا نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے؟

(a) Mars	مرخ	(b) Mercury	مرکری
(c) Venus	ونیس	(d) Earth	زمین

4. The percentage of hydrogen in the sun is: سورج میں ہائیڈروجن..... فیصد ہے۔

(a) 25%	(b) 35%	(c) 65%	(d) 75%
---------	---------	---------	---------

5. The diameter of the sun to: سورج کا ڈایا میٹر ہے:

(a) 1392000 km	(b) 13920 km	(c) 139200 km	(d) 1492000 km
----------------	--------------	---------------	----------------

6. Most of the mercury planet comprises of:

مرکری سیارہ کا زیادہ تر حصہ..... پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a) Copper	کاپر	(b) Iron	آئرن
(c) Silver	سلور	(d) Carbon	کاربن

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4) مختصر جوابات لکھیں۔

(i) What is the composition of sun? سورج کی کمپوزیشن کیا ہے؟

(ii) What do you know about mercury planet? مرکری سیارے کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟